

سوال 9 (آیت 33)۔ لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف-----

۱۔ نظر نہیں کرتے۔ ۲۔ رجوع ہو کر دُعائیں کرتے ہیں۔ ۳۔ صبر کرتے ہیں۔

سوال 10 (آیت 43)۔ وہ دن جس کا ٹل جانا ممکن نہیں ہے کون سا دن مراد ہے؟

سوال 11 (آیت 47)۔ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا----- ہے۔
(منع۔ لازم۔ ممکن)۔

سوال 12 (آیت 54)۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں----- کی حالت میں پیدا کیا تھا
پھر اس کمزوری کے بعد----- دیا اور پھر اس توانائی کے
بعد----- دیا۔

(شعور۔ کمزوری)۔ (لمبی عمر۔ توانائی)۔ (سوچ۔ بڑھا پا)۔

"سورہ لقمان"

سوال 13 (آیت 6-7)۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔
صحیح / غلط۔

* لغو باتوں میں دلچسپی لینے والے شخص کا حال لکھیے؟-----

سوال 14 (آیت 12)۔ اور ہم نے یقیناً----- کو حکمت دی۔ (سلیمان۔ لقمان۔ ہامان)۔

سوال 15 (آیت 13)۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا نصیحت کی؟

سوال 16 (آیت 14)۔ بچے کو دودھ پلانے کی مدت ----- ہے۔

(تین سال۔ دو سال۔ ایک سال۔)

* یہاں انسان کو کس بات کی تاکید کی جا رہی ہے؟

* میرا اور اپنے----- کا شکر کرو۔

(رشتہ داروں۔ والدین۔)

سوال 17 (آیت 15)۔ اگر وہ دونوں شرک پر آکسائیں تو اُن کا کہنا نہ ماننا دُرست ہے۔

صحیح / غلط۔

* کون اللہ کی طرف جُھکا ہوا ہے۔

(مُشرکین۔ مومنین۔)

سوال 18 (آیت 16-19)۔ رائی کے دانے کے برابر کی ہوئی نیکی یہ بدی اللہ سے مخفی نہیں رہ

سکتی

صحیح / غلط۔

* آیت 17 میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کیں؟

سوال 30 (آیت 21)۔ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں

عمدہ-----ہے۔

(ذکر۔ نمونہ۔ حال)۔

سوال 31 (آیت 25)۔ اللہ سبحان تعالیٰ نے غزوہ احزاب میں کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟

QURANVAAT.COM